



## سوال

(410) مکہ سے خارج کے احرام باندھنے کا حکم

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا جو شخص مکہ سے خارج سے آئے دوبارہ عمرہ کا پروگرام بن جائے تو کیا میقات سے احرام باندھے گا یا حرم سے یا حرم کے باہر سے اگر حرم سے باندھے گا تو عائشہ رضی اللہ عنہا کو تنبیہ کیوں بھیجا تھا باہر سے آنے والے کی کیا شرط ہے حرم سے احرام باندھنے کی تین دن سے زیادہ رہنے سے کیا اہل مکہ میں سے ہو جاتا ہے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

حرم کے اندر جہاں ٹھہرا ہوا ہے وہاں سے احرام باندھ سکتا ہے بدلیل حدیث:

«فَمَنْ لَمْ يَلْمَسْ أُمَّةً عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِمْ عَمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ بِبَخَارَى - كِتَابِ الْحَجِّ - بَابُ مَهْلِ مَنْ كَانَ دُونَ الْمَوَاقِيتِ

”یہ مقامات وہاں کے رہنے والوں کے لیے ہیں اور ان کے لیے بھی جو وہاں سے گزر کر آئیں وہاں کے مقیم نہ ہوں جو حج یا عمرہ کا ارادہ رکھتے ہوں۔ (اس حدیث پر شیخین کا اتفاق ہے)“

هَذَا مَا عِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

## احکام و مسائل

حج و عمرہ کے مسائل ج 1 ص 294

محدث فتویٰ